

وَيُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  
اور ہم قرآن پاک میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے قلوب میں شفا اور رحمت ہیں

# قرآن سے علاج

[www.islamiurdubook.blogspot.com](http://www.islamiurdubook.blogspot.com)  
فیضانِ پختن نیٹ ورک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فزان سے

علاج

**Faizan-e-Panjatan Network**

## ترتیب کتاب

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
07	سورۂ اخلاص کے فضائل	01
09	بلڈ پریشر کا مریض ہو	02
09	دل میں گھبراہٹ ہو	03
10	اولاد کی پیدائش سے ناامید ہو	04
10	جنات کو دفع کرنا ہو	05
11	ذیابیطس (شوگر) کا مریض ہو	06
11	آسیب زدہ ہو	07
12	دل کی تکلیف دور کرنی ہو	08
12	حمل ساقط ہو جاتا ہو	09
13	نرینہ اولاد کی تمنا ہو	10
13	ناجائز تعلق ختم کرنا ہو	11
14	نافرمان اولاد ہو	12
14	اولاد کا رشتہ طے نہ ہوتا ہو	13
15	میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو	14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
15	برائی میں مبتلا ہو	15
16	اولا زندہ نہ رہتی ہو	16
16	لڑکی کی پیدائش کی تمنا ہو	17
17	گردے اور پتے میں پتھری ہو	18
17	غائب کو حاضر کرنا ہو	19
18	ظالم کو ظلم سے روکنا ہو	20
18	بواسیر کی تکلیف ہو	21
19	جادو کا اثر ختم کرنا ہو	22
19	کسی مصیبت میں مبتلا ہو	23
20	بھاگے ہوئے کو واپس لانا ہو	24
20	خاندان میں نا اتفاقی ہو تو	25
21	آنکھوں کی بینائی محفوظ رکھنی ہو	26
21	جگر میں درد ہو	27
22	رنج و غم دور کرنا ہو	28

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
22	خواب میں نبی پاک ﷺ کا دیدار مقصود ہو۔	29
23	ایسی بیماری جس پر دوا اثر نہ کرتی ہو	30
23	کان میں درد ہو	31
24	کوئی چیز گم ہو گئی ہو	32
24	دانت میں درد ہو	33
25	نظر لگ گئی ہو	34
25	چوری ہو گئی ہو	35
26	پیٹ میں درد ہو	36
26	برے خواب آتے ہوں	37
27	ناف ٹل گئی ہو	38
27	آنکھوں کی بینائی کمزور ہو	39
28	زہریلے جانور نے کاٹا ہو	40
28	لا علاج بیماری ہو	41
29	دشمن کا خوف دور کرنا ہو	42

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
29	کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں	43
30	قید سے رہائی چاہتے ہوں	44
30	مقدمہ میں کامیابی چاہتے ہوں	45
31	امتحان میں کامیابی چاہتے ہوں	46
31	رزق میں کشادگی مقصود ہو	47
32	بدن پر داغ یا دھبہ ہو	48
32	چہرہ نورانی بنانا ہو	49
33	جائزہ مراد پوری کرنی ہو	50
33	رہنے کیلئے مکان نہ ہو	51
34	غصہ اور ضد ختم کرنا ہو	52
34	کسی بھی قسم کا درد ہو	53
35	منہ میں چھالے پڑ جاتے ہوں	54
35	علم میں ترقی چاہتا ہو	55
36	زبان میں لکنت ہو	56

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
36	لوگوں کی نظروں میں گر گیا ہو	57
37	معدہ کمزور ہو گیا ہو	58
37	سر میں درد ہو	59
38	بد ہضمی ہو گئی ہو	60
38	بھوک نہ لگتی ہو	61
39	دعائے حاجات	62
41	آیت الکرسی	63
42	دعائے مستجاب	64
46	مختصر وظائف	65

## سورۃ اخلاص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ  
یَلِدْهُ وَّلَمْ یُولَدْ ۝ وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ  
كُفُوًا اَحَدٌ ۝

## سورۃ اخلاص کے فضائل

روزانہ (300) دفعہ باوضو پڑھنے سے (9) نوافل کے حاصل

ہوتے ہیں۔

۱۔ اللہ رب العزت (300) تین سو دروازے غضب کے بند

کرے گا مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔

۲۔ (300) تین سو دروازے رحمت کے کھولے گا۔

۳۔ (300) تین سو دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے

غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔



۴ - اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔

۵ - (36) چھتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا۔

۶ - (50) پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے۔

۷ - اللہ پاک جنت میں (20) بیس محل دے گا جو یا قوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر محل میں (70,000) ستر ہزار دروازے ہوں گے۔

۸ - (2000) دو ہزار رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔

۹ - جب بھی مریں گے تو جنازے میں (1,10,000) ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے۔

انشاء اللہ



## بلڈ پریشر کا مریش و

وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

(سورة آل عمران - آیت، ۱۳۴)

بلڈ پریشر کے مریض اگر اس آیات کو روزانہ 101 مرتبہ

پڑھتے رہیں۔ انشاء اللہ ضرور فائدہ ہوگا۔

## دل میں گھبراہٹ و

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ط

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ ط

(سورة الرعد - آیت، ۲۸)

اگر کسی کے دل میں گھبراہٹ ہو تو اس آیت کو ۳ مرتبہ

پڑھ کر سینہ پر دم کرے انشاء اللہ آرام مل جائے گا۔

## اولاد کی پیدائش سے ناامید ہو

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(سورة المائدہ - آیت، ۱۷)

جو اولاد سے ناامید ہو جائے اس آیت کو ۴۱ دن تک

روزانہ ۳۰۰ مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی

آدھا آدھا کھا لیا کریں۔ انشاء اللہ ضرور امید برآئے گی۔

## جنات کو دفع کرنا ہو

جس مکان میں جنات کا شبہ ہو یا کسی انسان پر جنات

کا اثر ہو تو سورہ فاتحہ، آیتہ الکرسی اور سورہ جن کے شروع کی

۵ آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے چھڑک دیں۔ انشاء اللہ

جنات چلے آئیں گے۔

## ذیابیطس (شوگر) کا مریض ہو

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ  
صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(سورۃ بنی اسرائیل - آیت ۸۰)

شوگر کا مریض روزانہ اس آیت کو ۴۱ مرتبہ پڑھے۔

تو انشاء اللہ فائدہ پہنچے گا۔

## آسیب زدہ ہو

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰی  
كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا اِنَّهٗمۡ اَنَابَ ۝

(سورۃ ص - آیت ۳۴)

جس پر آسیب کا خلل ہو اُس کے بائیں کان میں یہ

آیت ۷ مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ آسیب جل جائے گا۔

## دل کی تکلیف دور کرنا ہو

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ  
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

(سورة الرعد - آیت، ۲۸)

دل کی تکلیف دور کرنے کے لئے اس آیت کو ۴۱ بار پڑھ کر  
پانی پر دم کر کے پیئیں۔ انشاء اللہ بیماری دور ہو جائے گی۔

## حمل ساقط ہو جاتا ہو

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَرَأَىٰ مَغِيضُ الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ ۝

(سورة الرعد - آیت، ۸)

جس عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو ابتداء سے لے کر ۹ مہینے تک اس آیت  
کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتی رہے۔ انشاء اللہ امید بر آئے گی۔

## زینہ اولاد کی تسنا ہو

وَيُبْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلْ  
لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

(سورۃ نوح - آیت ۱۲)

اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو، صرف لڑکیاں ہوں  
تو حمل ٹھہرتے ہی ۹ مہینے تک روزانہ ۱۱ مرتبہ اس آیت کو  
پڑھتے رہیں۔ انشاء اللہ زینہ اولاد پیدا ہوگی۔

## ناجائز تعلق ختم کرنا ہو

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ  
الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْذَحُونَ

(سورۃ المائدہ - آیت ۱۰۰)

اگر کسی عورت کا خاوند کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو تو اسے  
باز رکھنے کے لئے اس آیت کو ۱۱ دن تک ۱۴۱ مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے کی  
چیز پر دم کر کے کھلائیں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

## نافرمان اولاد ہو

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(سورة الاحقاف - آیت ۱۵)

نافرمان اولاد کو فرما نیر دار بنانے اور راہ راست پر لانے کے لئے اس آیت کو ۳ مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

## اولاد کا رشتہ طے نہ ہوتا ہو

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ (سورة الفرقان - آیت ۵۴)

جس کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو وہ اس آیت کو ۲۱

دن تک روزانہ ۳۱۳ مرتبہ پڑھے۔

انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔

## میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(سورة الروم۔ آیت ۲۱)

کسی میاں بیوی میں اختلاف ہو، آپس میں محبت نہ ہو تو اس

آیت کو ۹۹ مرتبہ کسی میٹھی چیز پر تین دن تک پڑھ کر دم کر کے دونوں

کو کھلائیں۔ انشاء اللہ دونوں میں محبت و مودت پیدا ہو جائے گی۔

## برائی میں مبتلا ہو

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(سورة البقرہ۔ آیت ۵)

جو دین سے غافل ہو، سیدھے راستے سے بھٹک جائے

نہرے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو اس آیت کو ۱۰۰ مرتبہ پڑھ

کر پانی پر دم کر کے ۴۱ دن تک پلائیں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔



## اولاد زندہ نہ رہتی ہو

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

(سورة الصافات - آیت ۷۶)

اگر کسی کی اولاد مرجایا کرتی ہو، زندہ نہ رہتی ہو یا کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتے ہوں اس آیت کو روزانہ صبح و شام ۱۱ مرتبہ پڑھتے رہیں۔ انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

## بچہ کی پیدائش کی تمنا ہو

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَنَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ

وَمَا تَزِدُّهُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَارٍ ۝

(سورة الرعد - آیت ۸)

جو یہ چاہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہو، وہ عورت ۵ مہینے تک اس آیت کو روزانہ ۲۱ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاء اللہ ضرور تمنا پوری ہوگی۔

## گردے اور پتے میں پتھری ہو

وَأَنَّ مِنَ الْجَارَةِ لِمَا يُتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَّقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(سورة البقرہ۔ آیت ۷۴)

اگر کسی کے گردے اور پتے میں پتھری ہو تو اس آیت کو ۴۱ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پلاتے رہیں۔ انشاء اللہ تکلیف دور ہو جائے گی۔

## غائب کو حاضر کرنا ہو

(پوری سورہ فاتحہ)

جو کوئی غائب ہو جائے اور اس کو واپس بلانا چاہیں تو فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان ۱۱ مرتبہ ۴۱ روز تک سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ انشاء اللہ امید پوری ہوگی۔

## ظالم کو ظلم سے روکنا ہو

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(سورۃ انعام۔ آیت، ۴۵)

جب ظالم کا ظلم ناقابل برداشت ہو جائے تو اس آیت کو ۳ دن تک ۲۱ مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ ظالم دفع ہو جائے گا۔ یہ آیات بڑی جلالی ہے۔ اپنے اوپر ظلم نہ ہوا ہو تو ہرگز نہ پڑھیں، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔

## بو اسیر کی تکلیف ہو

(سورۃ الم نشرح اور سورۃ الفیل۔ پوری سورت)

اگر کسی کو بو اسیر کی تکلیف ہو تو فجر کی دو سنتوں میں

پہلی رکعت میں اَلَمْ نَشْرَحْ (پوری سورت) اور دوسری رکعت

میں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ (پوری سورت) پڑھا کرے۔

انشاء اللہ تکلیف دور ہو جائے گی۔

## جادو کا اثر ختم کرنا ہو

قُلْنَا لَكَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَالْقَىٰ مَا فِي  
يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَيْدًا  
سَاحِرًا وَلَا يَفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝

(سورۃ طہ آیت ۶۹، ۷۸)

اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو جادو  
کے اثر کو ختم کرنے کے لئے اس آیت کو اذان تک ۱۰۰ مرتبہ پڑھ کر  
پھونکا جائے۔ انشاء اللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔

## کسی مصیبت میں مبتلا ہو

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

(سورۃ آل عمران - آیت ۱۷۳)

جو شخص کسی بلا و مصیبت میں مبتلا ہو تو اس آیت کو پڑھا  
کرے۔ انشاء اللہ اُس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔

بھاگے ہوئے کو واپس لانا ہو

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ  
لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

(سورة قصص - آیت، ۸۵)

جو کوئی بھاگ گیا ہو اسے واپس لانے کے لئے دو  
رکعت نفل پڑھ کر اس آیت کو ۱۱۹ مرتبہ چالیس روز تک پڑھیں۔  
انشاء اللہ بھاگا ہوا حاضر ہو جائے گا۔

خاندان میں نا اتفاقی ہو تو

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ  
إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

(سورة الحجر - آیت، ۴۷)

جس گھر میں یا خاندان میں نا اتفاقی ہو تو اس آیت کو  
ہر فرض نماز کے بعد ۱۱ مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر  
کے پھونک دیں۔ جب تک کامیابی نہ ہو یہ عمل جاری رکھیں۔

آنکھوں کی بینائی محفوظ رکھنی ہو

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ  
الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ  
تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْتِينَ رَبَّهِمْ مِّنْ  
كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۝

(سورة القدر)

جو شخص وضو کر کے آسمان کی طرف نظر کر کے ایک

مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ انشاء اللہ بصارت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔

جگر میں درد ہو

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

(سورة الرحمن۔ آیت ۷۸)

جگر کی تمام بیماریوں کے لئے اس آیت کو ۲۱ مرتبہ پڑھ کر پانی پر

دم کر کے پلائیں۔ انشاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

## خواب میں نبی کریم ﷺ کا دیدار

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

(سورة المؤمن - آیت، ۴۴)

رنج و غم دور کرنے کے لئے اس آیت کو روزانہ ۱۰ مرتبہ پڑھتے رہنے سے انشاء اللہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔

## خواب میں نبی کریم ﷺ کا دیدار مقصود ہو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(سورة الاحزاب - آیت، ۵۶)

جو شخص یہ چاہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو، وہ اس آیت کو رات کو سونے سے پہلے ۷ مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ ضرور تمنا پوری ہوگی۔

ایسی بیماری جس پر دوا اثر نہ کرتی ہو

فَدَا عَارِبَةً إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ۝

(سورۃ القمر - آیت ۱۰)

کسی شخص کو ایسی بیماری ہو کہ ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئے

یا کوئی دوا اثر نہ کرتی ہو تو اس آیت کو ۲۱ دن تک روزانہ ۳۱۳

مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکیں پھر پانی پر دم کر کے

پلائیں۔ انشاء اللہ مریض شفا یاب ہوگا۔

کان میں درد ہو

كَانَ لَمْ يَمْعَمَهَا كَانَ فِي أذُنَيْهِ وَقْرًا ۝

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝

(سورۃ لقمان - آیت ۷)

جس کے کان میں درد ہو، اس آیت کو سات مرتبہ پڑھ کر کان

میں دم کرنے سے انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔



کوئی چیز گم ہوگئی ہو

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ

(سورة آل عمران - آیت ۹)

اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو با وضو یہ دعا پڑھتے

رہیں۔ انشاء اللہ وہ چیز جلد مل جائے گی۔

دانت میں درد ہو

هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

(سورة الملك - آیت ۲۳)

جس دانت یا داڑھ میں درد ہو اس کو انگی سے دبا کر یہ آیت

سات مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

## نظر لگ گئی ہو

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا  
سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝  
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

(سورة الفهم - آیت، ۵۲، ۵۱)

کسی کو نظر لگ جائے۔ چاہے کتنی سخت ہو، اس آیت کو ۱۱ مرتبہ  
پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ شفاء ہوگی۔

## چوری ہو گئی ہو

(سورة الطارق - پوری سورت)

جس دروازے سے چوری کا مال گیا ہو اس دروازہ پر  
کھڑے ہو کر سورة الطارق روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔  
انشاء اللہ مال واپس مل جائے گا یا خواب میں چور کا پتہ چل جائے گا۔

## پیٹ میں درد ہو

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ ○

(سورة الصافات - آیت ۴۷)

اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس آیت کو ۵ مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں۔ انشاء اللہ پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔

الْمُشْرَحَ لَكَ صَدْرُكَ ○ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ○  
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ○ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○  
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ فَإِذَا  
فَرَّغْتَا فَانصَب ○ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ○

(سورة الم نشرح)

اگر کسی کو سونے کے بعد خواب میں بُرے بُرے خیالات اور سو سے آتے ہوں تو الم نشرح کی پوری سورت سونے سے پہلے نو مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔

## ناف لگنی ہو

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط

(سورة البقرہ۔ آیت ۱۷۸)

جب کسی کی ناف ٹل گئی ہو، اس آیت کو لکھ کر ناف پر باندھے۔

انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

## آنکھوں کی بینائی کمزور ہو

فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ

الْيَوْمَ مَحْدِيدٌ ۝

(سورة ق۔ آیت ۲۲)

ہر نماز کے بعد اس آیت کو ۳ مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کر

کے آنکھوں پر لگائے۔ انشاء اللہ آنکھوں میں جو نقصان ہوگا وہ

ختم ہو جائے گا اور بصارت بڑھ جائے گی۔

زہریلے جانور نے کاٹا ہو

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بِطِشْتُمْ جَبَارِينَ ۝

(سورۃ الشعراء۔ آیت، ۱۳۰)

اگر کسی کو زہریلا جانور کاٹے تو جہاں پر کاٹا ہو اس کے گرد انگلی  
گھماتا ہوا ایک سانس میں ۷ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دم کرے۔  
انشاء اللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔

لا علاج بیماری ہو

رَبِّةَ اِنِّیْ مَسْنِیْ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ  
الرَّحِیْمِ ۝

(سورۃ الانبیاء۔ آیت، ۸۳)

ایسی بیماری جو سمجھ میں نہ آتی ہو یا لا علاج بیماری ہو تو  
مریض خود اس آیت کو کثرت سے پڑھا کرے۔  
انشاء اللہ سکون مل جائے گا۔

دشمن کا خوف دور کرنا ہو

كُلُّكُمْ لِي اَدُوٌّ وَّ اِيَّاكُمُ الْمَوْتُ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلٰى ذٰلِكُمْ اٰيٰتٌ مِّن رَّبِّيْ لَآيُرْجِعُوْنَ ۝

(سورۃ البقرہ - آیت ۱۸۰)

کسی دشمن یا موذی جانور کا خوف ہو تو سات مرتبہ اس

آیت کو پڑھ کر اپنے سینہ پر دم کریں۔

انشاء اللہ خوف دفع ہو جائے گا۔

کاروبار میں ترقی چاہتے ہو

بِاللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

الغَنِیُّ الْحَمِيْدُ ۝

(سورۃ لقمان - آیت ۲۶)

کاروبار میں ترقی کے لئے یا نیا کاروبار شروع کرنا

چاہیں تو اس سے پہلے اس آیت کو روزانہ ۱۴۱ مرتبہ

پڑھیں۔ انشاء اللہ ضرور برکت ہوگی۔

## قید سے رہائی چاہتے ہوں

(سورۃ الجن - پوری سورت)

اگر کوئی قید خانہ سے رہائی چاہے تو روزانہ سورۃ جن پڑھ لیا کرے۔ انشاء اللہ باعزت رہائی نصیب ہوگی اور آسیب ہو تو روزانہ ۷ مرتبہ پڑھنے سے آسیب بھاگ جائے گا۔

## مقدمہ میں کامیابی چاہتا ہوں

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

(سورۃ بنی اسرائیل - آیت ۸۱)

مقدمہ کی کامیابی کے لئے اس آیت کو روزانہ کسی نماز کے بعد ۱۳۳ مرتبہ پڑھتے رہیں۔ حق پر ہوگا تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔

## امتحان میں کامیابی چاہتے ہوں

فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝

(سورة الانفال - آیت ۶۲)

امتحان یا اور کسی کام میں کامیابی کے لئے اس آیت کو  
جانے سے پہلے ۷ مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔

## رزق میں کشادگی مقصود ہے

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(سورة العنكبوت - آیت ۶۲)

رزق میں کشادگی کے لئے اس آیت کو فجر کے بعد  
روزانہ ۱۱ مرتبہ پڑھیں۔ انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔



## بدن پر نیش یا دھبہ

# مُسَلَّمَةٌ لِّأَشْيَاءٍ فِيهَا

(سورة البقرہ۔ آیت، ۷۱)

کسی کے بدن پر ناسور یا داغ دھبہ ہو تو ۲۱ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دو اپر پھونکے پھر دو استعمال کرے۔ انشاء اللہ داغ دھبہ دور ہو جائے گا۔

## چہرہ نورانی بنانا

(سورة النور۔ آیت، ۳۵)

چہرے پر اور دل میں نور پیدا کرنے کے لئے اس آیت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے اور سینہ پر ہاتھ پھیر لیا کرے۔

## جائزہ مراد پوری کرنے ہو

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  
وَيَكْشِفُ السُّوءَ ط

(سورۃ النمل - آیت ۶۲)

تمام قسم کی جائزہ مراد پوری کرنے کے لئے اس آیت کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ۱۰۰ مرتبہ چالیس دن تک پڑھیں۔ اس وظیفہ کے شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔

## رہنے کے لئے مکان نہ ہو

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  
مَعَايِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

(سورۃ الاعراف - آیت ۱۰)

اگر کسی کے پاس رہنے کے لئے مکان نہ ہو یا رزق میں تنگی ہو تو اس آیت کو روزانہ ۱۵ مرتبہ پڑھتا رہے۔ انشاء اللہ اس کی برکت سے ضرور کامیابی ملے گی۔

## غصہ اور ضد ختم کرنا ہو

يُنَارِكُونِي بِرَدٍّ أَوْ سَلْمًا عَلَيَّ ابْرَاهِيمَ ۝

(سورة الانبياء - آیت ۶۹)

غصہ اور ضد ختم کرنے کے لئے اس آیت کو روزانہ

پڑھتے رہیں۔ نیز جس کو تیز بخار ہو اس پر ۷ مرتبہ پڑھ کر دم

کرنے سے انشاء اللہ بخار جاتا رہے گا۔

## ہر قسم کا درد

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

(سورة بنی اسرائیل - آیت ۱۰۵)

ہر قسم کے درد کے واسطے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اس

آیت کو ۳ مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔

انشاء اللہ بہت جلد درد جاتا رہے گا۔

## منہ میں چھالے پڑجاتے ہوں

(سورۃ والضحیٰ - پوری سورت)

اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ جائیں یا بدن میں  
پھنسیاں ہو جائیں تو سورۃ والضحیٰ ۴۱ مرتبہ پڑھ کر شوگر پر دم کر  
کے چھالے۔ انشاء اللہ راحت ہو جائے گی۔

## علم میں ترقی چاہتا ہوں

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝  
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

(سورۃ طہ - آیت، ۲۵-۲۸)

ترقی علم اور ذہنی کشادگی کے لئے ان آیات کو روزانہ  
فجر کی نماز کے بعد ۲۱ مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ علم میں ترقی ہوگی۔

## زبان میں لکنت ہو

رَبِّ انشُرْ حِلِّي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝  
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

(سورۃ طہ - آیت، ۲۸ تا ۳۵)

اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو روزانہ ان آیات کو ۳ مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ زبان صاف ہو جائے گی۔

## لوگوں کی نظروں میں گر گیا ہو

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ  
شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(سورۃ یس - آیت، ۸۳)

اگر کوئی شخص لوگوں کی نظر سے گر گیا ہو اور چاہتا ہو کہ اُس کی عزت بحال ہو جائے تو اس آیت کو ۱۱ مرتبہ پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر پھونک مارے۔ انشاء اللہ کامیابی ملے گی۔

## معدہ کمزور ہو گیا ہو

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ  
الْقَدْرِ ۖ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ  
تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْتُونَ رَبَّهُمْ مِنْ  
كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ۗ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ (سورة القدر)

کسی کے معدہ میں اگر کمزوری ہو تو سورۃ القدر کو ۱۱ مرتبہ پڑھ کر  
پانی پر دم کرے اور مریض کو پلائیں۔ دن میں ۳ مرتبہ یہ دم کیا ہو پانی  
پلائیں۔ اسی طرح سات دن تک یہ عمل کرنے سے انشاء اللہ شکایت دور  
ہو جائے گی۔

## سر میں درد ہو

لَا يَصِدُّ عُنْوَكَمْ وَأَلَا يَنْزِفُونَ ۝

(سورة الواقعة۔ آیت ۱۹)

جس کو درد سر ہو، اس آیت کو ۳ مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کرے۔

انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔

## بدبُضْمی ہو گئی ہو

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ  
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○

(سورۃ بنی اسرائیل - آیت ۱۰۵)

اگر کسی کو بدبُضْمی ہو جائے تو اس آیت کو کھانا کھانے کے بعد ۷  
مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے کھالیں۔ انشاء اللہ بدبُضْمی دور  
ہو جائے گی۔

## بھوک نہ لگتی ہو

وَلَوْ أَفْضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ  
تَوَّابٌ حَكِيمٌ ○

(سورۃ النور - آیت ۱۰)

اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو اس آیت کو ۲۱ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر  
کے پیا جائے۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

# دُعائے حاجات

جو شخص ہر نماز کے بعد اور بالخصوص نماز جمعہ کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اُسے غنی کر دے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمادے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا اللّٰهُ يَا اَحَدٌ يَا وَاَحِدٌ يَا مَوْجُوْدٌ يَا جَوَادٌ

يَا بَاسِطٌ يَا كَرِيْمٌ يَا وَهَّابٌ يَا ذَا الطَّلُوْلِ

يَا غَنِيٌّ يَا مُغْنِيٌّ يَا فَتَّاحٌ يَا رَزَّاقٌ يَا عَلِيْمٌ

يَا حَكِيْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمٌ يَا رَحِيْمٌ يَا رَحِيْمٌ

يَا بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْمَلٰٓئِكِ

وَالْاَكْرَامِ يَا حَنَّانٌ يَا مَنَّانٌ يَا فَحِيْحٌ



مِنْكَ بِنَفْحَةٍ خَيْرٍ تُغْنِيَنِي بِهَا عَمَّنْ

سِوَاكَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ

الْفَتْحُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نَصْرًا

مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ

يَا حَبِيدُ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيدُ يَا وَدُودُ

يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَّالُ لَهَا

يُرِيدُ الْكُفْيَ بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَاعْزِزْنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَاحْفَظْنِي

بِمَا حَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ وَانصُرْنِي بِمَا

نَصَرْتَ بِهِ الرُّسُلَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

# آيَةُ الْكُرْسِيِّ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ (بیہقی شعب الایمان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ  
وَلَا نَوْمٌ لَمْ يَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ  
ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ  
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

## دُعائے مستجاب

اس دعا کے یہ فوائد ہیں جو کوئی ہر روز اس دعا کو پڑھے گا اگر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھے تو مہینے میں ایک بار پڑھے اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار پڑھے اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھے۔ اگر خود نہ بھی پڑھ سکے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر سن لے۔ خداوند کریم اس بندے کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے واسطے بہشت کے دروازے کھول دے گا اور جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر خدا تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا اور سات چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔

۱۔ فقیری سے  
۲۔ دنیا کی تکلیف سے

- ۳۔ جان قبض ہونے کی تلخی سے ۴۔ عذاب قبر سے  
۵۔ منکر اور نکیر کے سوالوں سے ۶۔ قیامت کی سختی سے  
۷۔ دوزخ کے عذاب سے

اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کو اپنا دیدار کرائے  
گا اور اس بندہ کو اللہ تعالیٰ مکاروں کے مکر اور چغل خوروں کی  
چغلیوں اور نیزوں کے زخم اور ظالموں کے ظلم اور بدگوئیوں کی  
زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ و بچھو کی آفت اور بجلی  
کی سختی اور دونوں جہاں کی ستر ہزار بلاؤں سے محفوظ رکھے گا  
اور اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار نیکی لکھے گا آدمی کے بدن  
میں ستر ہزار بلائیں ہیں جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو بلاؤں  
سے محفوظ رہے گا۔ جیسے سر کا درد، شقیقہ کا درد، آنکھ کا درد، کان  
کا درد، دانتوں کا درد، سینہ کا درد، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، ہڈیوں

کا درد، زہر کا درد اس کے علاوہ ہر قسم کے دردوں اور تکلیفوں سے  
بچا رہے گا اور جو بیماری وجود میں ہوگی۔ مثلاً ناروا، ناسور اور  
سنگ مثانہ کد و دانہ، خون کا بند ہونا یا مقدار سے زیادہ نکلنا اور  
دیوپری کے آسیب سے محفوظ رہے گا۔ جس کے پاس یہ دعا  
ہوگی اگر وہ بادشاہ کی مجلس میں یا پچھریوں میں جائے گا تو  
بڑی عزت پائے گا۔ گھر میں آئے گا تو سب لوگوں میں عزیز  
ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے، جب اس کو دفن  
کریں گے تو عذاب قبر نہ ہوگا بلکہ اس کی قبر فراخ ہو جائے گی  
اور اس دعا کی برکت سے سب بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ  
رہے گا اور اس کی دینی و دنیاوی مشکلات آسان ہوں گی۔  
خاصیت اس دعا کی بہت ہیں۔ لیکن مختصراً لکھی گئی ہیں۔

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
٢. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
٣. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
٤. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
٥. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُصَوِّرُ الْحَكِيمُ
٦. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
٧. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْبَصِيرُ الْقَادِرُ
٨. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
٩. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
١٠. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُبْدِيُّ الْمُعِيدُ
١١. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
١٢. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الصَّمَدُ الْمَعْبُودُ
١٣. سُبْحَانَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مختصر وظائف

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے تیری

رحمت کے ساتھ فریاد چاہتا ہوں۔

فضیلت : حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ حضور ﷺ کو کوئی غم یا فکر ہوتی تو آپ ﷺ

یہ پڑھا کرتے تھے۔ خصوصاً فجر کی سنت اور فرض کے بیچ

میں چالیس مرتبہ پڑھنے۔ سے ہر طرح کے غم اور مصیبت

سے نجات ملنے کے لئے ایسر ہے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے  
اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

خاصیت : حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت کے

مطابق جو شخص ہمیشہ صبح و شام سات مرتبہ پڑھے گا تو ذنیٰ

وَمَا فِيهَا کے تمام غموں سے اللہ تعالیٰ نجات بخشنے گا۔



## حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

اللہ ہمارے لئے کافی اور کارساز ہے

فضیلت : حضرت ابو ذر رداء رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص اس آیت کریمہ کو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھیگا تو دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

دوسری روایت

اس آیت کریمہ کے پڑھنے والے کو اونچائی سے گرنے اور آگ میں جلنے سے اور پانی میں ڈوبنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمالیتا ہے۔

## ایصال ثواب

برائے

سید سلطان محمود علی شاہ / سید میر منصف علی شاہ